


1031/2016

17.03.2017

None present for the appellant. Security and process fee has not been deposited. The court time is about to over.

In view of the above, the appeal is dismissed for want of prosecution. File be consigned to the record room.

  
Chairman  
Camp court, A/Abad

ANNOUNCED  
17.03.2017

17.03.17.

24.11.2016

Learned counsel for the argued that the appellant was serving as Chowkidar when removed from service vide impugned order dated 25.02.2016 on the allegations of willful absence where-against he preferred departmental appeal on 02.3.2016. That the appellant was verbally asked to perform duty and that his services would be restored in due course but instead of restoration of services of the appellant one Naqash Ahmad was appointed constraining the appellant to prefer the instant service appeal on 06.10.2016.


That the appellant was condemned unheard. That the enquiry was not conducted in the mode and manners prescribed by rules and as such the impugned order is liable to be set aside.

Points urged need consideration. Admit subject to limitation. Subject to deposit of security and process fee within 10 days, notices be issued to the respondents for written reply/comments for 16.2.2017 before S.B at camp court, Abbottabad. Notice of application for condonation delay shall also be issued to the respondents.

  
Chairman  
Camp Court, A/Abad

16.02.2017



None present for appellant. Security and process fee have not been deposited. To come up for further proceedings on 17.03.2017 before S.B. at camp court, A/Abad.

  
MEMBER  
Camp Court, A/Abad

Form- A  
FORM OF ORDER SHEET

Court of \_\_\_\_\_

Case No. 1031/2016

S.No.	Date of order proceedings	Order or other proceedings with signature of judge or Magistrate
1	2	3
1	06/10/2016	<p>The appeal of Mr. Imran Sabir presented today by Mr. Muhammad Awais Ajiz Advocate may be entered in the Institution Register and put up to the Learned Member for proper order please.</p> <p style="text-align: right;"> REGISTRAR <u>6/10/16</u></p>
2-	b-10-16	<p>This case is entrusted to Touring S. Bench A.Abad for preliminary hearing to be put up there on <u>24-11-2016</u>.</p> <p style="text-align: right;"> MEMBER</p>

BEFORE THE SERVICE TRIBUNAL KHYBER  
PAKHTUNKHWA PESHAWAR

Appeal No. 1031/2016

Imran Sabir .....Appellant

VERSUS

Government of Khyber Pakhtunkhwa Peshawar  
through Secretary Education, Peshawar and  
others .....Respondents

SERVICE APPEAL


INDEX

S#	Particulars of documents	Annexure	Pages
1	Memo of Service appeal alongwith affidavit.	.....	1-to-10
2	Application for condonation of delay.	.....	11-12
3	Correct addresses of the parties.	.....	-13-
4	Copy of the appointment order.	"A"	-14-
5	Copy of the application, and receipt.	"B"	15-16
6	Copy of the Explanation letter.	"C"	- 17 -
7	Copy of the reply of explanation letter, and receipt.	"D"	18-19
8	Copy of the attendance report.	"E"	- 20 -
9	Copy of the show cause notice.	"F"	-21-
10	Copy of the reply.	"G"	-22-
11	Copy of the impugned order.	"H"	-23-
12	Copy of the departmental representation.	"I"	24-25
13	Copy of the subsequent appointment order.	"J"	26-27
14	Copy of the application.	"K"	-28-
15	Wakalat Nama.	.....	- 29 -

Dated 06.10.2016

  
Imran Sabir  
...Appellant

Through

  
MUHAMMAD AWAIS AJIZ,  
YASIR KHATTAK,  
Advocates High Court,  
Mansehra.

**BEFORE THE SERVICE TRIBUNAL KHYBER  
PAKHTUNKHWA PESHAWAR**

*Appeal No. 1031/2016*

Imran Sabir son of Sabir Sultan resident of  
Village Datta, Tehsil and District Mansehra  
(Chowkidar, Government Girls Primary School  
Datta No.2 Mansehra) .....Appellant

Khyber Pakhtunkhwa  
Service Tribunal

Diary No. *1042*

Dated *06-10-2016*

**VERSUS**

1. Government of Khyber Pakhtunkhwa Peshawar  
through Secretary Education, Peshawar.
2. Director Education Khyber Pakhtunkhwa  
Peshawar.
3. District Education Officer (Female) Mansehra  
.....Respondents.

**SERVICE APPEAL AGAINST THE  
IMPUGNED NOTIFICATION/ORDER  
BEARING ENDST. NO.2790-96 DATED  
25.02.2016 ISSUED BY RESPONDENT  
NO.3, VIDE WHICH THE APPELLANT  
HAS BEEN REMOVED FROM SERVICE  
BY IMPOSING MAJOR PENALTY UPON  
HIM.**

Filed to-day

*[Signature]*  
Registrar

*6/10/2016*

**PRAYER: -**

On acceptance of the instant appeal,  
the impugned notification/order Endst.  
No.2790-96 dated 25.02.2016 may  
kindly be cancelled/set aside and the  
appellant may please be reinstated on  
his post.

Respectfully Sheweth!

**FACTS.**

1. That, the appellant was appointed against the vacant post of Chowidar in Govt. Girls Primary School Datta, Tehsil and District Mansehra vide office order No.15632-39 dated 07.07.2008 on the basis of employee's son quota, and during service the appellant served his duty with great zeal and zest.

*(Copy of the appointment order is annexed as annexure "A").*

2. That, during service in the year 2014, unfortunately some disputes had been created by few members of the family of appellant and started life threat to appellant and the life of appellant was actually in danger.
3. That, in result of above mentioned reason, it was not possible for the appellant to continue his service regularly in those days. Resultantly, the appellant was constrained to obtain leave for some period from his service. Consequently, the appellant duly applied for leave through an application which was sent to respondent No.3 giving reasons through registered post.

*(Copy of the application is annexed as annexure "B").*

4. That, the respondent No.3 being a human was supposed to grant leave to the appellant and the appellant was fully hopeful that his application for leave would be accepted, but the respondent No.3 instead of granting leave to the appellant made explanation against him on the basis of so-called baseless and hearsay report of ASDEO circle under letter No.683 dated 16.06.2014.

*(Copy of the Explanation letter is annexed as annexure "C").*

5. That, in response of said explanation letter, the appellant submitted sufficient and well reasoned reply to respondent No.3 for his satisfaction.

*(Copy of the reply of explanation letter is annexed as annexure "D").*

6. That, after completion of leave period, the appellant rejoined his duty in school vide attendance report dated on 16.12.2014.

*(Copy of the attendance report is annexed as annexure "E").*

7. That, without considering the genuine request of appellant, the respondent No.3 with malafide intention and having a revengeful mind against appellant, issued against him a show cause notice under Endst. No.3630-32 dated 18.04.2015.

*(Copy of the show cause notice is annexed as annexure "F").*

8. That, the appellant submitted the well reasoned and fully justifiable reply of said show cause notice to respondent No.3 on 23.04.2015.

*(Copy of the reply is annexed as annexure "G").*

9. That, the respondent No.3 under the political influence and having personal revenge without hearing the appellant with malafidely issued the impugned notification/order dated 25.02.2016, vide which the appellant has been removed from service by imposing major penalty upon him due to the reason of willful absence.

*(Copy of the impugned order is annexed as annexure "H").*

10. That, the appellant being aggrieved from the impugned notification/order



preferred a departmental representation before the respondent No.2 on 02.03.2016, which has not been decided so far and the statutory period has been elapsed.

*(Copy of the departmental representation is annexed as annexure "I").*

11. That, as the respondent No.3 came to know about the department representation of appellant, the respondent No.3 gave assurance to the appellant for his reinstatement as soon as possible therefore the appellant while serving his duty had been fully satisfied.

12. That, the appellant was serving his duty regularly upon said satisfaction, but in the meanwhile the respondent No.3 issued an appointment order No.11631-47 dated 08.09.2016 and another person namely Naqash Ahmed son of Syed Maqbool Shah is appointed on the place of appellant.

*(Copy of the appointment order is annexed as annexure "J").*

13. That, in result of said satisfaction of respondent No.3, the appellant did not file the service appeal before this august court, but after issuing of above-mentioned appointment order of said

Naqash Ahmed, the appellant came to know the malafide and fraud of respondent No.3, therefore, being aggrieved from the impugned notification/order No.2790-96 dated 25.02.2016 appellant seeks the gracious indulgence of this Honourable Tribunal, inter alia, on the following grounds: -

#### GROUNDS

- a. That, the impugned notification/order is against the law, facts and norms of equity and justice hence not maintainable in the eyes of law.
- b. That, no proper procedure has been adopted by respondent No.3 and no any opportunity was given to the appellant to defend himself properly, which is against the well celebrated principle of natural justice that no one should be condemned unheard, therefore, the impugned notification/order is liable to be set aside.
- c. That, the appellant was facing life threat and he was in unavoidable

circumstances and when these facts came in to the knowledge of local sitting MPA, he influenced the respondent No.3 for removal of appellant from his service just to create a vacant post for the appointment of some other closed persons of MPA and unfortunately the respondent No.3 has easily been influenced by the MPA.

- d. That, before issuing impugned notification/order no opportunity of personal hearing of appellant was given and without following the procedure of law, the appellant has been deprived from his legitimate, fundamental and legal rights hence the impugned order is not maintainable at all.
- e. That, all genuine reasons and factual explanation given by the appellant have been discarded by the respondent No.3 and a harsh order has been issued which is liable to be set aside.
- f. That, the respondent No.3 did not consider this fact that the appellant was facing serious repercussions towards his life because infact the respondent No.3 was influenced by sitting MPA.

- g. That, no any notice has been given to the appellant on his home address and no publication was made prior to the issuance of impugned notification/order, therefore, the procedure in case of willful absence has not been properly followed by respondent No.3, hence the impugned notification/order is liable to be cancelled.
- h. That, the respondent No.3 was legally and morally bound to consider the application of appellant and reasons which were beyond the control of appellant but the respondent No.3 without following the proper procedure of law initiated the proceedings against the appellant which were not sustainable in the eyes of law and the impugned order has its no force at all.
- i. That, as per impugned notification, the appellant was declared absent in School from 01.03.2014 to uptil now but infact the appellant was serving his duty after spending of leave period and it is also worth mention here that during leave period of appellant, his father was doing work in school and in this respect, the respondent No.3 was duly informed by P.T.A members through an application.

*(Copy of the said application is annexed as annexure "K").*

- j. That, the appellant belongs to poor family and his father was also retired from same post, but the appellant is being pushed out by respondent No.3 having a revengeful mind and on the basis of political influence.
- k. That, the appellant remained on duty on the satisfaction of respondent No.3 and in result of said satisfaction. The appellant could not file the instant service appeal before this Honourable Court within time, therefore, an application for condonation of delay is also submitted with the instant appeal.
- l. That, the subsequent appointment order bearing Endst. No.11631-47 dated 08.09.2016 is ineffective upon the rights of appellant as the appellant was not willful absent from school, hence the impugned order is liable to be set aside and subsequent above-mentioned order has also no force at all.


It is, therefore, most humbly prayed that the appellant may please be reinstated on his post with all back benefits or any other order or relief

which this Honourable tribunal may deems fit and appropriate, may also be passed/issued.

Dated 06.10.2016

عمران صابر  
Imran Sabir  
...Appellant

Through


  
MUHAMMAD AWAIS AJIZ,  
YASIR KHATTAK,  
Advocates High Court,  
Mansehra.

**AFFIDAVIT.**

I, Imran Sabir son of Sabir Sultan resident of Village Datta, Tehsil and District Mansehra (Chowkidar, Government Girls Primary School Datta No.2 Mansehra), Appellant, do hereby solemnly affirm and declare on oath that the contents of the foregoing service appeal are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed from this Honourable Court.

Dated 06.10.2016

عمران صابر  
Imran Sabir  
(DEPONENT)



**BEFORE THE SERVICE TRIBUNAL KHYBER  
PAKHTUNKHWA PESHAWAR**

Imran Sabir .....Appellant

**VERSUS**

Government of Khyber Pakhtunkhwa Peshawar  
through Secretary Education, Peshawar and  
others .....Respondents

**SERVICE APPEAL**

**APPLICATION FOR CONDONATION OF DELAY**

Respectfully Sheweth!

1. That, this application may please be considered as part and parcel of above-titled appeal.
2. That, after filing of departmental representation, the respondent No.3 gave assurance to the appellant for his reinstatement, therefore, the appellant has regularly been performing his duty in said school.
3. That, upon the satisfaction of respondent No.3 about his reinstatement, the appellant could not file the instant appeal within time.
4. That, the valuable and fundamental rights of appellant are involved with the instant appeal.


5. That if the delay has not been condoned then the appellant would suffer an irreparable loss.
6. That, on issuing of appointment order of Mr. Naqash Ahmed on the place of appellant, after that, the appellant came to know about the fraud and malafide of respondent No.3 and then appellant filed the instant appeal.

For the foregoing reasons, the delay in filing the above-titled appeal, may please be condoned and the appeal may please be decided on merits.

Dated 06.10.2016

  
Imran Sabir  
...Appellant

Through


  
MUHAMMAD AWAIS AJIZ,  
YASIR KHATTAK,  
Advocates High Court,  
Mansehra.

**AFFIDAVIT.**

I, Imran Sabir son of Sabir Sultan resident of Village Datta, Tehsil and District Mansehra (Chowkidar, Government Girls Primary School Datta No.2 Mansehra), Appellant, do hereby solemnly affirm and declare on oath that the contents of the foregoing application are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed from this Honourable Court.

Dated 06.10.2016

  
Imran Sabir  
(DEPONENT)





**BEFORE THE SERVICE TRIBUNAL KHYBER  
PAKHTUNKHWA PESHAWAR**

Imran Sabir .....Appellant

**VERSUS**

Government of Khyber Pakhtunkhwa Peshawar  
through Secretary Education, Peshawar and  
others .....Respondents

**SERVICE APPEAL**

**CORRECT ADDRESSES OF THE PARTIES**

**APPELLANT**

Imran Sabir son of Sabir Sultan resident of  
Village Datta, Tehsil and District Mansehra  
(Chowkidar, Government Girls Primary School  
Datta No.2 Mansehra).


**RESPONDENTS**

1. Government of Khyber Pakhtunkhwa Peshawar  
through Secretary Education, Peshawar.
2. Director Education Khyber Pakhtunkhwa  
Peshawar.
3. District Education Officer (Female) Mansehra.

**Dated 06.10.2016**

  
Imran Sabir  
...Appellant

Through

  
**MUHAMMAD AWAIS AJIZ,  
YASIR KHATTAK,  
Advocates High Court,  
Mansehra.**

OFFICE OF THE EXECUTIVE DISTRICT OFFICER ELEMENTARY & SECY:EDU:MANSEHRA  
ORDER

As approved by the Departmental Selection Committee, the Executive District Officer Schools & Literacy Mansehra has been pleased to appoint Mr. Inran Sabar s/o Sabar Sultan (Employee's Son) r/o Datta Tehsil & District Mansehra against the vacant post of Chowkidar @ Rs. 4000/- P.M fixed at GGPS, Datta District Mansehra in the interest of Public Service with effect from the date of his taking over charge subject to the following terms & conditions:-

TERMS & CONDITIONS:

1. His appointment is purely on temporary basis and liable to termination at any stage without assigning any reason/notice.
2. He will be governed by such rules and regulations enforce and as may be prescribed by the Government from time to time for the category of the Government servants to which they belong.
3. In case he failed to assume the charge of his posts within 15 days of his appointment, candidature-ship will be stand automatically cancelled.
4. The candidate will enter into an agreement with the Government and will be governed by the terms and conditions hereinafter mentioned in such agreement. He will sign the agreement on prescribed form on stamp papers before joining service.
5. His salary is subject to execution of agreement deed based on the terms and conditions of the contract through DDO concerned.
6. His services are liable to termination on one month prior notice from either side in case of resignation without prior notice. His one month pay/allowances if any shall be forfeited to Government Treasury.
7. He will not contribute any amount towards G.P Fund.
8. His services can be terminated at any time in case his performance is found unsatisfactory and he will be proceeded against under the removal from service (Special Power) Ordinance, 2000 and E&D Rules 1973.
9. He should produce Age & Health Certificate from the MS DHQ Hospital Mansehra.
10. He may not be handed-over the charge if his age is above 45 years and below 18 years.
11. No TA/DA etc is allowed.
12. Charge report should be submitted to all concerned in duplicate.

(SYED SHAH JEE)  
EXECUTIVE DISTRICT OFFICER  
ELEMENTARY & SECY:EDU:MANSEHRA

Endst: No 15632-39 / C.IV-Appnt: 2007-6 Dated Mansehra the 7-7-2008

Copy to the:-

1. Secretary to Govt of NWFP (S&L) Department Peshawar.
2. Director (S&L) Department NWFP Peshawar.
3. District Accounts Officer, Mansehra.
4. Dy: District Officer (F&L) Mansehra.
5. PA to District Nazim, Mansehra.
6. PA to District Coordination Officer, Mansehra.
7. Budget & Accounts Officer, local office, Mansehra.
- 8- Candidate concerned.

  
DISTRICT OFFICER (M.A.L.)  
ELEMENTARY & SECY:EDU:MANSEHRA

*Interested to be  
to be  
Office*

## بخدمت جنابہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ضلع مانسہرہ

جنابہ عالیہ!

گزارش ہے کہ سائل گورنمنٹ گرلز پرائمری سکول داتا نمبر 2 مانسہرہ میں چوکیدار کی پوسٹ پر ریگولر

ڈیوٹی سرانجام دے رہا ہوں۔ سائل کے بڑے بھائی کی شادی ڈھوڈیاں مانسہرہ سے ہوئی تھی لیکن اب گھریلو

مسائل کی وجہ سے دونوں خاندانوں میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں۔ جس میں سائل کو بھی جان سے مارنے کی

دھمکی ملتی رہتی ہے۔ جس کی وجہ سے سائل کے لئے ڈیوٹی سرانجام دینا انتہائی مشکل ہو گیا ہے۔

آپ سے گزارش ہے کہ سائل کو از 20-03-2014 سے لیکر 15-12-2014 تک چھٹی قانون کے مطابق

تنخواہ/بغیر تنخواہ دی جائے۔ تاکہ سائل کی جان کو جو خطرات ہیں بچ سکے۔ سائل غریب آدمی ہے۔ اور سائل کا

والد بھی چوکیدار کی پوسٹ پر اس سکول سے ریٹائرڈ ہوئے تھے۔

امید ہے کہ سائل کے ساتھ اس مشکل وقت تعاون کیا جائے گا۔ سائل آپ کی اس مشکل گھڑی میں تعاون پر

حیات دعا گورہے گا۔

عین نواز شہزاد گوگئی

سائل عمران صابر  
عمران صاحب

چوکیدار GGPS داتا نمبر 2 تحصیل ضلع مانسہرہ

OFFICE OF THE DISTRICT EDUCATION OFFICER (FEMALE) MANSEHRA

No. 683 / Explanation 2014

Dated Mansehra the 16/6/ / 2014

To,

The Mst:Imran Chowkidar  
GGPS GGPS Datta No.2

Subject:- EXPLANATION

Memo:

*so be*  
*Witnessed*  
*force*  
*Qureshi*

As reported by ASDEO circle during her visit to your school you have found willful absent from your school duty w.e.f 18.03.2014 to up till now.

You are therefore, called upon to explain your position within three days of the issue of this letter, otherwise it will be presumed that you have nothing to say in your favor and strict disciplinary action would be initiated against you under the E&D rules 2011.

*Sub-Division* District Education Officer  
Female Mansehra  
sub: Divisional Education  
Officer (Female) Mansehra

بخدمت جناب سب ڈویژنل ایجوکیشن آفیسر صاحبہ (زنانہ) مانسہرہ

جواب طلبی

جناب عالیہ!

بحوالہ لیٹر نمبر 683 مورخہ 16/06/2014 جوابات ذیل ہیں۔

۱۔ یہ کہ مسائل سال 2008 میں بطور چوکیدار GBPS داتہ نمبر 2 میں اپنے والد کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھرتی ہوا تھا۔

۲۔ یہ کہ اُس وقت سے لے کر مسائل نے اپنی ریگولر ڈیوٹی سکول ہذا میں شروع کر دی تاکر تارباہوں اور مسائل کے نا تجربہ کار ہونے کی وجہ سے مسائل کے والد صاحب بھی ساتھ بغیر تنخواہ کے ڈیوٹی سرانجام دیتے رہے ہیں۔

۳۔ یہ کہ مسائل کے بڑے بھائی کی شادی ڈھو ڈیال سے ہوئی تھی لیکن کچھ گھریلو مسائل کی وجہ سے دونوں خاندانوں میں لڑائی جھگڑا ہو گیا تھا جس میں مسائل کو بھی جان سے مار دینے کی دھمکی ملتی رہی ہے اور اب بھی دے رہے ہیں جس کی وجہ سے مسائل کا یہاں رہنا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا مسائل کے بھائی کا مقدمہ بھی فیملی کورٹ میں ابھی بھی زیر سماعت ہے۔

۴۔ ان حالات کے پیش نظر مسائل نے مورخہ 20/03/2014 کو چھٹی کے لئے درخواست بنام ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر مانسہرہ کے نام بذریعہ ڈاک بھیجی ہے اور جس کی رسید درخواست کے ساتھ لف ہے جس میں از 20/03/2014 تا 15/12/2014 تک چھٹی کیلئے درخواست دی تھی۔ مسائل ابھی تک گھر واپس نہیں آسکا۔ جناب عالیہ! آپ سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ میری چھٹی از

20/03/2014 تا 15/12/2014 تک منظور کی جائے مسائل چھٹی کے دوران سکول ہذا کو چلانے کے لئے اپنے والد صاحب کو سابق چوکیدار تھے صابر سلطان سے ڈیوٹی بھی بغیر تنخواہ اور دیگر معاملات سے بھی کروا سکتے ہیں اگر محکمہ ہذا کو کوئی اعتراض نہ ہو آخر میں مسائل آپ سے دوبارہ اپیل کرتا ہے کہ اس مہنگائی کے دور میں اپنی سروس کو جاری و ساری رکھنا چاہتا ہے اور چھٹیوں کے ختم ہونے پر اپنی ڈیوٹی دوبارہ ریگولر سرانجام دے گا۔ مسائل کو معاف کیا جائے اور مزید کوئی کارروائی عمل میں نہ لائی جائے مسائل پہلے ہی کئی مسائل سے دوچار ہے لہذا اُسے مزید پریشان نہ کیا جائے۔ اُمید ہے کہ مسائل کی پریشانی کو مد نظر رکھتے ہوئے بھرپور تعاون کیا جائے گا۔ مسائل اور اُس کا پورا خاندان آپ کے لئے دُعا گور ہے گا، آپ کی عین نوازش ہوگی

ان

عمران صابر چوکیدار گورنمنٹ گرلز پرائمری سکول نمبر 2 داتہ مانسہرہ

عزیز صاحب

حاضری رپورٹ

میں نے آج مورخہ 16-12-2014 کو اپنی چھٹی ختم ہونے پر گورنمنٹ گرلز پرائمری سکول داتہ نمبر 2 میں حاضری کر دی ہے۔

رپورٹ ارسال خدمت ہے

مزید کارروائی عمل میں لائی جائے

do be  
Official  
true

عمران صابر چوکیدار  
عمران صاحب  
GGPS داتہ نمبر 2

کاپی برائے انفارمیشن

- ۱۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر (زنانہ) مانسہرہ
- ۲۔ سب ڈویژن ایجوکیشن آفیسر (زنانہ) مانسہرہ
- ۳۔ اے ڈی ای او سرکل مانسہرہ
- ۴۔ آفس کاپی

حبت علی!

گورنمنٹ گرلز پرائمری سکول داتہ نمبر 2 میں صبی عمران صابر نے حضرتین عسدم

و عتہ کبھی کی موجودگی میں اپنی چھٹی گزارنے کے بعد باضابطہ طور پر حاضری رد کی

۱) زاہد زخان ولد سید زمان سکنہ داتہ سابقہ کولسر داتہ

۲) بابو محمد الدین داتا صاحب فرید الدین سکنہ داتہ

۳) سید اختر حسین شاہ ولد سید خالد حسین شاہ سکنہ داتہ

۴) شیری بی بی

۵) نینہ بی بی چتر میں عتہ

۶) روبینہ بی بی نمبر عتہ

تذکرہ




OFFICE OF THE DISTRICT EDUCATION OFFICER (FEMALE) MANSERHA

SHOW CAUSE NOTICE

*do be*  
*Office*  
*to*  
*Q*

Naghmana Sardar District Education Officer (Female) Manserha in the capacity of competent authority is hereby served you show Cause Notice as reported by Sub-Divisional Education Officer (F) Manserha. Mr. Imran Sabir Chowkidar GGPS Datta No 2 absent from duty during the visit of ASDEO Manserha Dated 18.03.2014 to upto till now.

You are hereby directed to submit the reply with cogent reason within 7 days after receipt of this letter positively. otherwise action of removal from Govt: Services will be taken against you under the revised E&D rules 2011. without further notice.




DISTRICT EDUCATION OFFICER  
(FEMALE) MANSERHA

Endst: No 3620-32 / Dated 18/4 / 2015

Copy of the above is forwarded for information to the

1. Deputy commissioner Manserha.
2. District Monitoring officer Manserha.



DISTRICT EDUCATION OFFICER  
(FEMALE) MANSERHA

بخدمت جناب ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر صاحبہ (زنانہ)، مانسہرہ۔

Annex = (G1)

جناب عالیہ!

بحوالہ آپ کا تحریر شدہ نوٹس نمبر 32-3630، مورخہ 18-04-2015 جوابات ذیل ہیں۔

- ۱۔ سائل سال 2008 سے بطور چوکیدار GGPS دانہ نمبر 2 میں ڈیوٹی سرانجام دیتا رہا ہے۔
- ۲۔ بوجہ مجبوری سائل نے از 20-03-2014 تا 15-12-2014 تک چھٹی کے لیے درخواست بذریعہ ڈاک بھیجی تھی جو کہ ابھی تک منظور یا نہ منظور ہونے کی سائل کو علم نہیں ہے۔
- ۳۔ چھٹی گزارنے کے بعد سائل نے مورخہ 16-12-2014 کو سائل نے اپنے سکول میں دوبارہ حاضری کی تھی جس کے ساتھ فوٹو کاپی لف ہے۔
- ۴۔ اس کے بعد سردی کی چھٹیاں ہو گئی تھیں اور بعد از چھٹیاں سائل نے دوبارہ 21-03-2015 کو سکول ہذا میں حاضری کی تو ہیڈ ٹیچر نے انکار کیا کہ ASDEO سرکل مانسہرہ سے رابطہ کر کے حاضری کریں سائل نے اس وقت سے خود بھی رابطہ کیا اور حاضری رپورٹ بھی ساتھ دی جو کہ کاپی ساتھ لف ہے۔

جناب عالی!

اس کے بعد سائل کا ابھی تک کوئی فیصلہ کسی اتھارٹی نے نہیں کیا ہوا جس کی وجہ سے سائل کافی پریشان ہے۔ سائل ایک غریب آدمی ہے اور گھریلو، معاشی حالات کی وجہ سے پریشان بھی ہے۔ سائل نے پہلے بھی ڈیوٹی سرانجام دی ہے اور آئندہ بھی سرانجام دیتا رہے گا۔ امید ہے کہ سائل کو معاف کیا جائے گا۔ عین نواش ہوگی۔

تاریخ: 23-04-2015

سائل  
محمد انیس صاحب  
عمران صابر

چوکیدار 02، GGPS، دانہ، مانسہرہ



OFFICE OF THE DISTRICT EDUCATION OFFICER (FEMALE) MANSEHRA

NOTIFICATION

Mr: Imran Sabir Chowkidar GGPS Datta No 2 was proceeded against under the Khyber Pakhtunkhawa Govt. Servant (Efficiency & Disciplinary Rules 2011 for the charge of having been willfully absent from his duty w.e.f. 01.03.2014 to up till now (1 years 11 months 03 days)


AND WHEREAS inquiry committee was constituted to conduct formal inquiry against the accused official for the charges leveled against.

AND WHEREAS Inquiry committee after having examined the charges/evidence on record and explanation of the accused official has submitted the report.

AND WHEREAS Mr: Imran Sabir Chowkidar GGPS Datta No 2 has been served with final show cause notice published in the daily Akhbar Abbottabad dated 05.02.2016 he was not present in school and he failed to appear before the competent authority for personal hearing within 15 days.

AND, WHEREAS the Competent authority (District Education Officer Female) Mansehra after having considered the charges and evidence on record, enquiry report, he failed to submit his reply in response to the show cause notice is of the view that the charges against the accused official have been proved.

NOW THEREFORE, in exercise of the power conferred under section 14 Khyber Pakhtunkhawa Govt. Servant (Efficiencies and discipline) rule 2011 the District Education Officer (Female) Mansehra being the competent authority is pleased to impose major penalty of (REMOVAL FROM SERVICE) upon Mr; Imran Sabir Chowkidar GGPS Datta No 2 with immediate effect)

  
DISTRICT EDUCATION OFFICER  
(FEMALE) MANSEHRA  
Dated Mansehra the 25/2/ /2016

Endst: No. 2790-96 /AE-III (F)/PST

Copy to:-

1. The Director (E&SE) Khyber Pakhtunkhawa Peshawar.
2. The Deputy Commissioner Mansehra.
3. The District Monitoring officer Mansehra.
4. The District Account office Mansehra.
5. The SDEO (F) Mansehra.
6. The Teacher concerned.
7. Office file.

  
DISTRICT EDUCATION OFFICER  
(FEMALE) MANSEHRA

بخدمت جناب ڈائریکٹر صاحب ایلمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن خیبر پختونخواہ پشاور

جناب عالی!

اپیل

مودبانہ گزارش ہے کہ سائل کی تقرری بطور چوکیدار GGPS دائرہ میں مورخہ 07-07-2008 کو ہوئی تھی اور سائل نے وہاں سے لے کر 19-03-2014 تک ریگولر ڈیوٹی سرانجام دی کچھ گھریلو مسائل کی وجہ سے سائل نے از 20-03-2014 تا 15-12-2014 تک E/leave کیلئے درخواست دفتر ہڈا میں بذریعہ رجسٹری جمع کی تھی جس کی فوٹو کاپی ساتھ لف ہے بذریعہ لیٹر نمبر 683 مورخہ 16-06-2014 سائل کی جواب طلبی کی گئی، تو سائل نے تحریری جوابات بھی دفتر ہڈا کو جمع کروائے جس کی فوٹو کاپی ساتھ لف ہے۔ چھٹی ختم ہونے پر سائل نے 16-12-2014 کو سکول ہڈا میں ڈیوٹی کیلئے گیا تو متعلقہ ہیڈ ٹیچر نے حاضری اور ڈیوٹی دینے سے روک دیا اور ساتھ کہا کہ متعلقہ اے ڈی اؤ نے مجھے کہا ہے کہ عمران صابر کو حاضری نہیں کرنے دینا۔ آپ ADO سرکل سے رابطہ کریں۔ سائل نے تحریری طور پر متعلقہ ADO سرکل کو درخواست دی کہ ہیڈ ٹیچر کو ہدایت کریں کہ وہ ڈیوٹی کی اجازت دے۔ جس کی فوٹو کاپی لف ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے SDEO سے بات کر کے آپ کو کہوں گی پھر حاضری کرنا مورخہ 24-12-2014 کو سکول ہڈا میں سردی کی چھٹیاں ہو گئی تھیں پھر جب حاضری ہوئی تو سائل نے دوبارہ 2-03-2015 کو سکول ہڈا میں حاضری کیلئے گیا تو ہیڈ ٹیچر کا پھر وہی جواب تھا میں نے رپورٹ لکھ کر ADO کو پھر دی فوٹو کاپی ساتھ لف ہے۔ اور ساتھ زبانی طور پر بھی پورے گھریلو مسائل کا بھی ذکر کیا۔ ساتھ PTA کی کمیٹی کی بھی تحریری رپورٹ بھی دی جس کی فوٹو کاپی ساتھ لف ہے۔ لیکن اس کا پھر وہی جواب تھا۔ سائل پھر دوسرے دن دفتر کا چکر لگا تا رہا۔ لیکن سائل کو کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ مورخہ 18-04-2015 کو سائل کو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا جس کا سائل نے مورخہ 23-04-2015 کو تحریر جواب بھی ارسال کیا۔ فوٹو کاپی ساتھ لف ہے۔

جناب عالی! پھر سائل کو اچانک مورخہ 25-02-2016 کو Remove from Service کر

دیا گیا جو کہ غیر قانونی عمل ہے۔

چونکہ

(۱) سائل نے تحریری چھٹی کیلئے بھی درخواست دی تھی جس کی منظوری یا نامنظوری کا سائل کو کوئی تحریری یا

زبانی نہیں کہا گیا تھا۔

(۲) چھٹی گزارنے کے بعد سائل نے فوراً دوسرے دن ہی سکول ہڈا میں حاضری کی تھی تاکہ کوئی غیر حاضری

نہ ہو جائے۔

(۳) اس کے بعد بھی متعلقہ حکام سے سائل مسلسل رابطہ ہی رہا ہے۔

free copy

ad  
do  
Vr

(۴) دفتر ہذا ہی سے جو تحریری یا زبانی انفارمیشن سائل سے مانگی تھی اس کے جوابات سائل نے تمام کے دیئے ہیں۔

(۵) Personal Hairing بہت اہم ہوتی ہے۔ جس کے بارے ہی سائل کو کوئی تحریری یا زبانی نہیں کیا گیا ہے، چونکہ سائل کا موقف کسی نے نہیں سنا ہے۔

(۶) جس اخبار میں اشتہار دیا گیا ہے۔ اس میں نام بھی درج نہیں ہے۔ اور نہ ہی سائل کو کسی نے کہا ہے کہ اشتہار آیا ہوا ہے چونکہ سائل تو خود اخبار پڑھتا ہی نہیں ہے۔ گاؤں کارہنے والا ہے۔

آپ سے گزارش ہے کہ سائل کو نوکری پر بحال کیا جائے۔ اور سائل کی چھٹی منظور بھی کی جائے۔ چونکہ سائل غریب آدمی ہے۔ اور گھر میں بوڑھے والدین ہیں۔ سائل کے خلاف یکطرفہ کارروائی کی گئی۔ امید ہے کہ سائل کی اپیل کو منظور فرماتے ہوئے سائل کو نوکری پر بحال کیا جائے گا۔  
عین نوازش ہوگی۔

مورخہ: 02-03-2016

ارض

عمران صاحب

عمران صابر ولد صابر سلطان

ساکنہ داتا گورنمنٹ گراؤں پرائمری سکول نمبر 2 داتا

442 For Insurance Notices see reverse. Stamps affixed except in case of uninsured letters of not more than the initial weight prescribed in the Post Office Guide or on which no acknowledgment is due.

Rs. Ps. 600

Send a registered\* letter to \_\_\_\_\_ Date-Stamp \_\_\_\_\_

\*Write here "letter", "postcard", "packet" or "parcel" with the word "insured" before it when necessary.

Insured for Rs. (in figures) \_\_\_\_\_ (in words) \_\_\_\_\_

Insurance fee Rs. \_\_\_\_\_ Ps. \_\_\_\_\_ (in words) \_\_\_\_\_

Name and address of sender \_\_\_\_\_

Weight } Kilo Grams

2 MAR 16

OFFICE OF THE DISTRICT EDUCATION OFFICER (FEMALE) MANSEHRA

APPOINTMENT ORDER:-

Annex- (J)

As approved by the Departmental Selection Committee, the competent Authority has been pleased to appoint the following candidates on regular Basis under Deceased son/Daughter/Wives' quota & Open Merit against vacant posts mentioned against each in BPS-3 @ Rs.(8040-325-17790) pm plus usual allowances as admissible under the rules in the interest of Public Service with effect from the date of their taking over charge subject to the following terms & conditions.

S No	NAME WITH FATHER'S NAME	RESIDANCE	APPOINTED AS	NAME OF SCHOOL WHERE APPOINTED	REMARKS
1	Jawaria Rouf D/o Abder Rouf	Balakot	Lab Attendant	GGPS Cuppy Gali	Deceased Daughter A/Vacant post
2	Muniba Bibi W/o Muhammad Irshad	Dhangri	Cook	GGCMS No 1 Mansehra	Deceased Wives A/Vacant post
3	Chondri Junaid S/o M. Jhanzeb	Kaias Jamal Maei	Naib Qasid	GGMS Agia Gran	Deceased Son A/Vacant post
4	Anwar Jan W/o Muhammad Banaris	Chak Pansial	Naib Qasid	GGMS Seki Bala	Deceased Wives A/Vacant post
5	Nazia Shaneen W/o Muhammad Haroon	Murad Pur	Naib Qasid	GGHSS Murad Pur	Deceased Wives A/Vacant post
6	Muhammad Waseem S/o Muhammad Faria	Major Ayoub Road Mansehra	Naib Qasid	DEO (Female) Mansehra	Open Merit A/Vacant post
7 ✓	Naqash Ahmad Shah S/o Syed Maabool Shah	Datta	Chowkidar	GGPS Datta No 2	Open Merit A/Vacant post ✓

TERMS & CONDITIONS

1. Their appointment is purely on regular basis and liable to termination at any stage without assigning any reason/notice.
2. They will be governed by such rules & regulations as may be prescribed by the Govt. from time to time for the category of the Govt. servants to which they belong.
3. Their services are liable to termination on one month prior notice from either side. In case of resignation without prior notice, one month pay & allowances if any shall be forfeited to Government Treasury.

08/16

- Their services can be terminated at any time in case of their performance found unsatisfactory and they will be proceeded against under the rules (Removal from services (Special Power) Ordinance 2001 & E&D Rules 2011.
5. In case they failed to assume the charge of their posts within 15 days of appointment, candidature-ship will stand automatically cancelled.
  6. They should produce age & health certificate from the Medical Superintendent DHO Hospital Mansehra.
  7. They may not be handed over the charge if their age is more than 40 years and below 18 years.
  8. Charge reports should be submitted to all concerned in duplicate
  9. No TA/DA etc is allowed
  10. The competent authority reserves the right to rectify with draw/cancel/amend the order of the appointee if found any mistake/ illegality/concealment by the candidate at any stage.

*[Signature]*  
**DISTRICT EDUCATION OFFICER  
(FEMALE) MANSEHRA**

Endst: No 11631-67 /Estt: (F)/D/Son /2016. Dated Mansehra the 8/9/ /2016

Copy of above is forwarded to the:-

1. Director Elementary & Secondary Education Khyber Pakhtunkhwa Peshawar.
2. District Nazim Mansehra.
3. Deputy Commissioner Mansehra.
4. District Monitoring Officer Mansehra.
5. District Account Officer Mansehra.
6. Head Mistress GGHSS/ GGHS & GGMS.
7. S D E O (F) Local Office.
8. A S D E O (F) Circle Concerned.
9. Candidates concerned.
6. Office Record File.

*[Signature]*  
**DISTRICT EDUCATION OFFICER  
(FEMALE) MANSEHRA**

استاد  
مدرس

بخدمت مزیدہ ڈی. اے. او. ایف. ف. ماسٹر سرکار

جو کہ عالی  
حضور میں ہے۔ کئی سالوں سے اس کا نام لیا گیا ہے۔  
جو اب اس کا نام سے اس کے لئے خط لکھا ہے۔

سے دو ایچ ڈی ایچ کے نظام میں دے گا۔ لیکن اس سے پہلے

بھی وہ فوٹو دے رکھی ہے۔ اس کا اولاد صاحب صاحبان

جو کہ اس وقت سے پیشتر ہو چکے ہیں۔ اس سے درخواست کی

جاتی ہے کہ وہ اس کے لئے کوئی طریقہ کار لکھ کر دے۔

میرے اور میری عزیزوں کا پتہ نہیں ہے۔ تاکہ ان سے بھی

مشاورت کی جائے۔ ہمارے پاس بھی اس کے بارے میں کچھ

عین ذرا معلوم ہے



دعا ہے کہ اس کے لئے کوئی طریقہ کار لکھ کر دے۔  
P.A.A. کے لئے

دوسرے ایچ ڈی ایچ کے لئے  
P.A.A. کے لئے

P.A.A. کے لئے


DBM No. 436

BC No. 

1	2	-	3	4	8	6
---	---	---	---	---	---	---

Name of Advocate. مرداویس

S.No. 9530



2016-17

# وکالت نامہ

*Amir*  
 Sheikh Noor-ul-Amn Noor  
 Advocate High Court  
 General Secretary  
 District Bar Ass: Mansehra

بعدالت: جناب سروس ایڈووکیٹ جنرل خٹورہ اور

عنوان: عمران صاحب نام: حکومت پاکستان بذریعہ محکمہ تعلیم

منجانب: ایڈووکیٹ نوعیت مقدمہ: سروس ریل

باعث تحریر آئندہ

دریں مقدمہ عنوان بالا میں اپنی طرف سے برائے پیروی و جواب دہی بمقام ایڈووکیٹ کے لئے  
ایڈووکیٹ ایڈووکیٹ ایڈووکیٹ  
 کو بدین شرائط وکیل مقرر کیا ہے کہ میں ہر پیشی پر خود یا بذریعہ مختار حاکم روبرو عدالت حاضر ہوتا رہوں گا اور بوقت پکارے  
 جانے وکیل موصوف کو اطلاع دیکر حاضر کروں گا۔ اگر کسی پیشی پر مظہر حاضر نہ ہوا اور غیر حاضری کی وجہ سے کسی طور پر مقدمہ  
 میرے خلاف ہو گیا تو وکیل موصوف اس کے کسی طرح ذمہ دار نہ ہوں گے۔ نیز وکیل موصوف صدر مقام کچہری کے علاوہ  
 کسی اور جگہ کچہری کے مقررہ اوقات سے پہلے یا بروز تعطیل پیروی کرنے کے مجاز نہ ہوں گے۔ اگر مقدمہ کچہری کے علاوہ  
 کسی اور جگہ سماعت ہو یا کچہری کے اوقات کے آگے پیچھے سماعت ہونے پر مظہر کو کوئی نقصان پہنچے تو وکیل موصوف ذمہ دار  
 نہ ہوں گے اور وکیل موصوف کو عرضی دعویٰ اور درخواست اجراء ڈگری و نظر ثانی اپیل نگرانی دائر کرنے نیز ہر قسم کی درخواست  
 بیان حلفی و تصدیق کرنے اور اسپر دستخط کرنے کا بھی اختیار ہوگا۔ اور کسی حکم یا ڈگری کے اجراء کرانے اور قسم کا روپیہ وصول  
 کرنے اور رسید دینے اور داخل کرنے کا ہر قسم کا بیان دینے اور سپر دائی و رضی نامہ و دستبرداری و اقبال دعویٰ کا اختیار بھی ہوگا  
 بصورت اپیل و برآمدگی مقدمہ یا منسوخی ڈگری یکطرفہ درخواست حکم امتناعی یا فیصلہ قبل از ڈگری اجراء ڈگری بھی وکیل موصوف  
 کر بشرط ادائیگی علیحدہ محنتانہ ادا کرنے کا مجاز ہوگا اور بصورت ضرورت بدورال مقدمہ یا اپیل و نگرانی کسی دوسرے وکیل یا ایئر سٹر کو  
 بجائے خود یا اپنے ہمراہ مقرر کریں اور مشیر قانونی کو بھی اس امر میں وہی اختیارات حاصل ہوں گے جیسے وکیل موصوف کو  
 اور اگر پوری فیس تاریخ پیشی سے پہلے ادا نہ کروں گا تو وکیل موصوف کو پورا اختیار ہوگا کہ مقدمہ کی پیروی نہ کریں اور ایسی حالت  
 میں میرا مطالبہ وکیل موصوف کے برخلاف نہیں ہوگا مجھے کل ساختہ پرداختہ وکیل موصوف مثل ذات خود منظور و قبول ہوگا۔  
 لہذا وکالت نامہ لکھ دیا ہے اور دستخط/انگوٹھا مثبت دیا ہے۔ تا۔ سندر ہے۔ مضمون وکالت نامہ سن لیا ہے اور اچھی طرح ٹیکسیو لیا ہے۔

عمران صاحب ولد صاحب سکھان  
 (ایڈووکیٹ)

مورخہ 05 ستمبر 2016ء

ACCEPTED

*Amir*  
 Sheikh Noor-ul-Amn Noor  
 Advocate High Court  
 General Secretary  
 District Bar Ass: Mansehra